

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کو اپنی دس سہولت گاہوں میں رسائی میں آسانی کے حوالے سے رک ہینسن فاؤنڈیشن ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن دی جائے گی

برامپٹن، آن (1 اکتوبر 2020) – سٹی آف برامپٹن کی دس سہولت گاہوں کو عمارتوں میں آسان رسائی فراہم کرنے کی بنیاد پر رک ہینسن فاؤنڈیشن ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن™ کی جانب سے تعریفی اسناد دینے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ اعزازی RHFAC درجہ بندیاں حاصل کر کے، سٹی منتخب شدہ عمارتوں میں رسائی کے درجہ کو بہتر سمجھ سکے گا اور اس کی بنیاد پر مستقبل میں رسائی کی سہولیات میں مزید بہتریاں لائی جا سکیں گی۔

دس منتخب شدہ سہولت گاہوں میں درج ذیل شامل ہیں:

- لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر
- روز تھیٹر
- POA کورٹ ہاؤس
- گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور لائبریری
- کیسی کیمپ ہیل کمیونٹی سینٹر
- سٹی ہال
- BFES اپارٹس اینڈ میٹیننس فیسلٹی
- برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل
- برامیلا ٹرانزٹ ٹرمینل
- سپرنگ ڈیل لائبریری

رک ہینسن فاؤنڈیشن پورے اونٹیریو میں منتخب شدہ میونسپلٹیوں میں 250 اعزازی درجہ بندیاں کرے گا، جس کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے پر ہم حکومت اونٹیریو کے انتہائی مشکور ہیں۔ RHFAC پروگرام تربیت یافتہ پیشہ وارانہ ماہرین کو کاروباری اداروں اور عوامی عمارتوں کے لیے RHFAC طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے رسائی کی درجہ بندی کا تعین کرتا ہے تاکہ پراپرٹی منیجرز اور مالکان کو شناخت شدہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے متعین کرنے میں مدد مل سکے جس کی بنیاد پر وہ اپنی جگہوں اور کمیونٹیوں کو مزید قابل رسائی بنا سکیں۔

پروگرام کے دوسرے مرحلے میں اعزازی RHFAC درجہ بندیاں حاصل کرنے کے لیے درخواستیں حالیہ طور پر 30 نومبر 2020 تک موصول کی جا رہی ہیں۔ مزید جانیں اور یہاں پر درخواست دیں www.rickhansen.com/ontarioratings

فوری حقائق

- RHFAC کی درجہ بندیاں اس سال کے موسم خزاں میں 2021 میں متوقع تکمیل کے ہدف کے ساتھ شروع ہوں گی۔
- ایسی تنظیمیں جو RHFAC پروگرام کی درجہ بندی حاصل کریں گی، انہیں درجہ بندی کا ایک رازدارانہ اسکور کارڈ بھی دیا جائے گا جس سے وہ اپنی عمارت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کے بارے میں جان سکیں گے۔
- اس پروگرام میں سند حاصل کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں: RHF ایکسیبلٹی سرٹیفائیڈ لیول اور RHF ایکسیبلٹی سرٹیفائیڈ گولڈ لیول۔
- سٹی آف برامپٹن اور اس کی [ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی](#) اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن میں متنوع کمیونٹیاں پھولوں کے ایک گلدستے کی مانند سچی ہوئی ہیں اور ہم معذوری کے حامل لوگوں کی رسائی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ ہماری متنوع کمیونٹی میں ہر شخص شریک رہے۔ میں سٹی کی دس منتخب شدہ

سہولت گاہوں کے لیے RHFAC کی درجہ بندی حاصل کرنے کے اس موقع کا تہہ دل سے خیرمقدم کرتا ہوں اور جب اوٹاوا میں میری ملاقات رک سے ہوئی، تو میں نے فاؤنڈیشن کی سند کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا تھا اور میں نے سٹی کی جانب سے اس کے لیے درخواست دینے کی رغبت حاصل کی تھی۔ مجھے اپنی جگہوں میں رسائی کے درجوں کا بخوبی علم ہے اور ہم ایک ایسے شہر کی تعمیر کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں جو سب لوگوں کے لیے جامع اور قابل رسائی ہو۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کونسل کی جانب سے ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، مجھے یہ سن کر خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے شہر کے دس مقامات کو RHFAC کی اعزازی درجہ بندی حاصل ہو گی۔ رکاوٹوں کو ہٹانے سے ہمارا شہر سب لوگوں کے لیے قابل رسائی بن جائے گا اور اپنی عمارتوں میں رسائی میں آسانی کے درجہ کو سمجھتے ہوئے ہم صوبائی سطح کی AODA رہنماء ہدایات کی توقع سے بڑھ کر اپنی عمارتوں میں بہتریاں لانے کے قابل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تمام شہری سٹی کی سہولت گاہوں سے مساوی طور پر لطف اندوز ہو سکیں گے۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی کونسل ممبر، سٹی آف برامپٹن؛ ممبر ریجن آف پبل ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی

"سٹی آف برامپٹن میں ہم ہر پس منظر کے حامل شہری کو ایک گلدستے میں جڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہر طرح کی صلاحیت کے حامل لوگ ہمارے شہر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اپنی دس منتخب شدہ عمارتوں کے لیے RHFAC کی درجہ بندیاں حاصل کر کے ہم اپنی سہولت گاہوں کو برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کے حوالے سے زیادہ ادراک حاصل کریں گے اور اس کی روشنی میں رسائی میں آسانی کے حوالے سے مستقبل میں زیادہ بہتریاں عمل میں لائی جا سکیں گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca